

## 5248- سورۃ فاتحہ سے قبل کوئی اور سورۃ پڑھنا سنت نبویہ کی مخالفت ہے

### سوال

کیا نماز میں سورۃ فاتحہ سے قبل کوئی سورۃ پڑھنا جائز ہے؟

### پسندیدہ جواب

نماز میں سورۃ فاتحہ سے قبل کوئی اور سورۃ پڑھنی جائز نہیں، بلکہ سورۃ فاتحہ سے قبل دعائے استفتاح، اعوذ باللہ، اور بسم اللہ پڑھی جائیگی۔

جس نے سورۃ فاتحہ سے قبل کوئی سورۃ پڑھی وہ سنت نبویہ کی مخالفت کر رہا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ط

”نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ فاتحہ سے قبل قرآن مجید کی کوئی اور سورۃ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سورۃ فاتحہ سے قبل دعائے استفتاح مثلاً:

وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض

حنیفاً مسلماً وأنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للرب العالمین  
لا شریک لہ وبذلک أمرت وأنا أول المسلمین اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربی  
وأنا عبدک، ظلمت نفسی، واعترفت ذنوبی، فاغفر لی ذنوباً جمیعاً لا یغفر الذنوب إلا  
أنت، وابدئی لأحسن الأخلاق لا یدعی لأحسنها إلا أنت، واصرف عنی سببها لا یصرف عنی  
سببها إلا أنت، بلیک وسعدیک، وانخیر کلم بیدیک، والشریک لیس لیک، أنا بک وإلیک

تبارکت و تعالیت، استغفرک، و اتوب إليك

”

میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف

پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ایک طرف ہو، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، میری بدنی عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، اور مجھے سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما، سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور مجھ سے برے اخلاق دور کر دے، تیرے علاوہ برے اخلاق کوئی نہیں بٹا سکتا، حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور بھلائی سب تیرے ہاتھوں میں ہے، اور برائی تیری طرف نہیں میں تیری توفیق سے ہوں، اور تیری طرف متوجہ ہوں، تو بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔

پڑھا کرتے تھے۔

دیکھیں: صفحہ صلاة النبی صلی اللہ

علیہ وسلم للابابانی (59-97)۔

واللہ اعلم۔